

باب 6

کاروبار کی سماجی ذمہ داری اور کاروباری اخلاقیات

سیکھنے کے مقاصد

اس باب کے مطالعہ کے بعد آپ:

- سماجی ذمہ داری کے تصور کی تشریح کر سکیں گے
- سماجی ذمہ داری کی ضرورت پر گفتگو کر سکیں گے
- مختلف مفادات رکھنے والے گروپوں کے تین سماجی ذمہ داری کی شناخت کر سکیں گے
- ماحولیاتی تحفظ اور کاروبار کے درمیان تعلق کا تجربہ کر سکیں گے
- کاروباری اخلاقیات کے تصور کی تعریف کر سکیں گے اور اس کے اجزاء کو بیان کر سکیں گے۔

منی تتم ایک نوجوان صحافی ہے جو اپنے اخبار میں چھ ماہ سے کاروباری اداروں کے ان غلط کاموں کے بارے میں لکھ رہا ہے جس میں گراہ کن اشتہارات، ملاوٹی اشیاء کی سپلائی، کام کرنے کے لئے برے حالات، محولیاتی آلوگی، رشوت خور سرکاری افسران وغیرہ جیسے مسائل شامل ہیں۔ اسے یہ یقین ہو چلا ہے کہ کاروباری لوگ پیسہ کمانے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کو ایک بڑی ٹرک بنانے والی کمپنی کے چیئر مین مسٹر من جھن جھن والا سے انترو یو لینے کا موقع ملا جو کہ گاہوں، سرمایہ کاروں، ملاز میں اور سماج کے دوسرا گروپوں کے ساتھ پاک صاف معاملات رکھنے کے لئے معروف ہیں انترو یو سے منی تتم نے سمجھ لیا کہ ایک کاروباری ادارے کے لئے ممکن ہے کہ وہ سماجی طور پر ذمہ داری اور اخلاقی طور پر درست رہ کر بھی زیادہ منافع حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کاروباری سماجی ذمہ داری اور کاروباری اخلاقیات کا اور زیادہ مطالعہ کرنے میں مشغول ہو گیا۔

6.1 تعارف

میں آلوگی کثروں کرنے والے آلات نصب کرنا اور گاہوں کی شکایات پر توجہ دینا سماجی طور پر پسندیدہ کاموں کی چند مثالیں ہیں جن سے ادارے کی بہتر شیبی بنتی ہے اور اسے منافع بھی حاصل ہوتا ہے درحقیقت کاروباری ادارہ پائیدار کامیاب سماجی ذمہ داری پوری کر کے اور اخلاقی طور پر درست رویہ اختیار کر کے ہی حاصل کر سکتا ہے۔

6.2 سماجی ذمہ داری کا تصور

کاروباری سماجی ذمہ داری سے مراد اس کے ان فیصلوں کو لینے اور ان کاموں کو انجام دینے کی ذمہ داری سے ہے جو کہ ہمارے سماج کی اقدار اور مقاصد کے لحاظ سے قابل قبول ہوں۔ کاروباری اداروں کی سماجی ذمہ داریوں کے مفروضہ سے مراد یہ ہے کہ وہ سماج کی توقعات کا احترام کرنے اور اپنے مالی مفادات کے ساتھ ان توقعات کو بہترین طریقے سے پورا کرنے کی کوششیں کریں۔ یہ تصور اس عام رائے کے برعکس ہے کہ

کی جانی ضروری ہیں، دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ سماجی ذمہ داری میں کاروباری لوگوں کی جانب سے سماجی مفاد کی خاطر ایک رضا کارانہ عمل کا عصر شامل ہوتا ہے۔

6.3 سماجی ذمہ داری کے لئے ضرورت

سماجی ذمہ داری کے لئے کیا جانے والا درست کام کیا ہے؟ کیا کاروباری ادارے کو مالکان کے فائدے کے لئے چلایا جانا چاہیے جو کہ زیادہ منافع کمانا چاہتے ہیں یا پھر اس کو سماج کے دیگر طبقات جیسے گاہوں، ملازموں، سپلائرزوں بستی کے لوگوں اور حکومت کے مفاد کو پورا کرنے کے لئے ذمہ داری بھانی چاہیے؟ سماجی ذمہ داری کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ نیادی

کاروبار کا مقصد صرف زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہوتا ہے اور عمومی بھلائی کی بات کرنا ہی بے جا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار کاروبار بلکہ سماج کے ہر ذمہ دار فرد کو دوسروں کی زندگیوں پر پڑنے والے اثرات کو منظر رکھ کر اپنے کاموں کو نجام دینا چاہیے۔

لہذا کاروبار کی سماجی ذمہ داری کاروبار کی قانونی ذمہ داری کے مقابلہ میں زیادہ وسیع ہے۔ قانونی ذمہ داری کو محض قانون پر عمل کر کے پورا کیا جاسکتا ہے، سماجی ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ اس میں فرم کے ذریعہ نہ صرف ان ذمہ داریوں کی شاختہ شامل ہے جو کہ قانون کے تحت نہیں آتی ہے بلکہ فرم کو ان ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے جو کہ قانوناً پوری

کارپوریٹ کی سماجی ذمہ داری (سی ایس آر)

کاروباری ادارے کی ہر ایک قسم (تہاں ملکیت، شرکت داری، مشترکہ ہندو خاندان امداد باہمی یا ایک کمپنی) کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سماجی طور پر پسندیدہ طریقے سے کام کرے۔ سی ایس آر کے تصور نے موجودہ دور میں خاص طور پر ایک کمپنی کے حوالے سے مقبولیت حاصل کی ہے۔ سی ایس آر کی تعریف میں کہا جاسکتا ہے کہ اس سے مراد قدرتی ماحول، طبقات، عوام اور اخلاقی اقدار کا احترام کرتے ہوئے کاروباری کامیابی حاصل کرنا ہے۔ سی ایس آر کا مطلب سماج کی قانونی، اخلاقی، کاروباری اور دیگر توقعات پر توجہ دینا ہے جو وہ کارپوریٹ سے رکھتی ہے کارپوریٹ کو چاہیے وہ تمام لوگوں کے مطالبات سے مناسب توازن رکھنے والے فیصلوں اور کاموں کو ان کے سامنے رکھے، ان لوگوں میں حصہ داران، قرض خواہ، مدد مقابل، کارکنان، حکومت اور معاشرہ شامل ہیں۔

سی ایس آر کے نظریہ کے مطابق یہ پوری کمپنی میں کی جانے والی فیصلہ سازی، مطالبات کی بھرپائی اور کاروباری سرگرمیوں میں منظم پالیسیوں، طریقہ ہائے کار اور پروگراموں کا ایک قابل فہم غاکہ ہے اور یہ ہر اس جگہ کا فرماء ہے جہاں کمپنی کاروبار کرتی ہے اور اس میں حال اور ماضی کے کاموں اور مستقبل کے اثرات کی ذمہ داری شامل ہوتی ہے۔

چاہیے۔ درحقیقت کاروبار کی خوشحالی اور ترقی معاشرہ کی مسلسل خدمت سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ اس طرح کاروبار کی سماجی ذمہ داری کا مفروضہ اس کی بقا اور ترقی کے لئے جواز پیش کرتا ہے۔

(ii) فرم کا طویل مدتی مفاد: ایک فرم اور اس کی شبیہ لبے عرصہ میں اس صورت میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکتی ہے جبکہ یہ اپنے اعلیٰ ترین مقصد کو پورا کر لے، یہ اعلیٰ ترین مقصد ہے ”معاشرہ کی خدمت“۔ جب بڑی تعداد میں سماج کے ممبر (جن میں کارکنان، صارفین، حصہ داران، سرکاری افسران وغیرہ شامل ہیں) یہ محسوس کرتے ہیں کہ ادارہ ان کے بہترین مفاد کو پورا نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ اس ادارے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ اس لئے یہ فرم کے خود اپنے مفاد میں ہے کہ وہ سماجی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ جب کوئی فرم سماجی مقاصد کو پورا کرتی ہے تو اس کی عوامی شبیہ بھی بہتر ہوتی ہے۔

(iii) حکومت کے ضوابط سے احترازیاں سے بچنا: تاجر کے نقطہ نظر سے حکومت کے ضوابط ناپسندیدہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ آزادی پر پابندی لگاتے ہیں اس لئے یہ مانا جاتا ہے کہ تاجر رضا کارانہ طور پر سماجی ذمہ داریوں کو پورا کر کے حکومت کے ضوابط سے بچ سکتا ہے اور اس سے نئے قوانین کی تشکیل کی ضرورت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔

(iv) معاشرہ کی دلکھریکی: یہاں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ تمام ممکنہ حالات کے لئے قانون نہیں بنائے جاسکتے۔ جن

طور پر ایک اخلاقی مسئلہ ہے۔ کیونکہ اس میں فرم کی ذمہ داریوں سے متعلق اخلاقی طور پر غلط اور صحیح کا سوال شامل ہوتا ہے۔ سماجی ذمہ داری میں تاجر کی جانب سے رضا کارانہ عمل کا جزو بھی ہوتا ہے کہ جو کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے یا نہ کرنے کے لئے آزاد ہوتے ہیں۔ سماج کے مختلف طبقات کی خدمت انہیں کس حد تک کرنی ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لئے بھی وہ اپنی آزادی کا استعمال کر سکتے ہیں، کاروبار کو سماجی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہئیں یا نہیں اس پر لبے عرصہ سے بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، چند لوگوں کا پکا لیقین ہے کہ فرم کی سماجی ذمہ داری صرف اس کے مالکان کے تین ہے جبکہ چند دیگر لوگوں کا نظریہ اس کے بر عکس ہے وہ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ فرم کی سماجی ذمہ داری معاشرہ کے ان تمام طبقات کے تین ہے جو کہ اس کے فیصلوں اور کاموں سے متاثر ہوتے ہیں، اس لئے کاروبار کی سماجی ذمہ داریوں کے تصور کی موافقت اور مخالفت میں دیئے گئے دلائل کو سمجھنا ضروری ہو گا۔

6.3.1 سماجی ذمہ داری کی موافقت میں دلائل

(i) بقا اور ترقی کے لئے جواز: کاروبار کے قیام کا مقصد اشیاء اور خدمات کی فراہمی کے ذریعہ انسانی ضروریات کو مطمین کرنا ہے جبکہ منافع کا مقصد کاروباری ادارے کے کاموں کے لئے ایک اہم وجہ جواز ہے لیکن پھر بھی اس کو لوگوں کو پیش کی جانے والی خدمت کے بدلتے میں ملنے والا فائدہ ہی مانا

بہت تھوڑا موقع ہوتا ہے۔ اس لئے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کاروباری نظام کو کچھ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ اس کا سابقہ اسی صورتحال سے پڑے کہ جب بہت سی سماجی بیماریوں کے باعث اس کی اپنی بقا خطرے میں پڑ جائے۔ ایک ایسا سماج جس میں چند ہی مسائل ہوتے ہیں فرم کو اپنا کاروبار کرنے کے لئے بہتر ماحول فراہم کرتا ہے۔

(viii) سماجی مسائل کے لئے کاروبار کو ذمہ دار ٹھہرانا: یہ دلیل دی جاتی ہے کہ کچھ سماجی مسائل یا تو کاروباری اداروں نے خود پیدا کئے ہیں یا انھیں بڑھایا ہے۔ ماحول کی آلوگی، کام کرنے کی غیر محفوظ جگہیں، سرکاری اداروں میں بدعنوی اور روزگار میں انتیازی سلوک ان مسائل کی چند مثالیں ہیں اس لئے یہ کاروبار کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے میں حصہ لے نہ کہ محض دیگر سماجی ایجننسیوں سے اس بات کی توقع کرے کہ وہ ان مسائل کو خود ہی حل کر لیں گی۔

6.3.2 سماجی ذمہ داری کی مخالفت میں دلائل:
سماجی ذمہ داری کی مخالفت میں دیئے جانے والے اہم دلائل حسب ذیل ہیں:

(i) زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے مقصد کی خلاف ورزی: اس دلیل کے مطابق کاروبار کا وجود صرف اس لئے ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے۔ لہذا سماجی ذمہ داری کی کوئی بات کرنا اس مقصد کے خلاف ہے۔ درحقیقت کاروبار کا رگزاری میں اضافہ اور لاگتوں میں کمی کر کے زیادہ

لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کاروبار سے اپنے واجبات حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ایسے لوگ غیر سماجی حرکات میں ملوث ہو جاتے ہیں جس سے کاروبار کا خود اپنا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس لئے اچھا ہے کہ کاروباری ادارے اپنی سماجی ذمہ داریاں نبھائیں۔

(v) کاروبار کے پاس وسائل کی دستیابی: اس دلیل کے مطابق کہ کاروباری اداروں کے پاس قیمتی مالی اور انسانی وسائل ہوتے ہیں جن کا استعمال مسائل کو موثر طور پر حل کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے، مثلاً کاروبار کے پاس بہت زیادہ انتظامی صلاحیت، مالیاتی وسائل اور کاروباری سرگرمیوں کو منظم کرنے کا برسوں کا تجربہ ہوتا ہے۔ اس سے سماج کو اپنے مسائل کو بہتر طور پر حل کرنے میں مدد ملتی ہے کیوں کہ اس کے لیے کاروبار کے پاس بہت بڑی مقدار میں مالی اور انسانی وسائل ہوتے ہیں۔

(vi) مسائل کو موقع میں تبدیل کرنا: یہ دلیل گزشتہ دلیل سے تعلق رکھتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ کاروبار کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے پر خطر صورتحال کو منافع بخش سودوں میں تبدیل کیا ہے اس لئے یہ نہ صرف سماجی مسائل کو حل کر سکتا ہے بلکہ چینچ کو قبول کر کے انھیں موثر طور پر مفید بناسکتا ہے۔

(vii) کاروبار کرنے کے لئے بہتر ماحول: کاروبار کو ایک مختلف النوع اور پیچیدہ مسائل سے بھرے ہوئے سماج میں کام کرنا ہوتا ہے اور اس لئے کامیابی حاصل کرنے کا

بلا دلائل کی بنیاد پر کوئی بھی تعجب میں پڑ سکتا ہے کہ درحقیقت کاروباری لوگ آخر کرتے کیا ہیں۔ کیا ان کی توجہ کا مرکز زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہوتا ہے؟ یا وہ سماجی مقاصد کی حمایت کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ کاروباری لوگوں کے روایہ میں آنے والی ایک اہم موجودہ تبدیلی سے ان پر اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ اب انھیں اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لئے منافع کمانے کے ساتھ سماجی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ بے شک اس احساس یا انکشاف کا ایک جز حقیقی نہیں ہے اور یہ صرف زبانی ہے جو کہ خجی ادارے کی بقا کو یقینی بنانے کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ خجی کاروبار بھی جزوی طور پر اس سچائی کو پیچانتے اور محسوس کرتے ہیں کہ ایک خجی فرم کو بھی ایک جمہوری سماج کے مطالبات کو پورا کرنا پڑتا ہے جہاں تمام لوگوں کو چند انسانی حقوق حاصل ہوتے ہیں اور اس لئے وہ کاروبار سے ایک ذمہ دارانہ طریقہ عمل کی مانگ کر سکتے ہیں۔ جب تک کاروبار اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرتا، اپنی شکل و صورت میں تبدیلی نہیں کرتا اور سماجی عضو ہونے کے اپنے کردار کو بھانے کی تیاری نہیں کرتا اس کے لئے کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے۔ یہاں پر ان قوتوں اور عوامل کا سمجھنا ضروری ہو گا جو کہ کاروباری لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دینے کی ترغیب دیتے ہیں اور ان پر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا دباؤ ڈالنے ہیں۔ ان میں سے چند اہم مندرجہ ذیل ہیں۔

(i) عوامی ضابطہ کا اندازہ: آج کے دور کی جمہوری طور

سے زیادہ منافع کما کرنا پنی سماجی ذمہ داری کو بہترین طریقہ سے پورا کر سکتا ہے۔

(ii) صارفین پر بوجھ: یہ دلیل دی جاتی ہے کہ آلوگی پر کنٹرول اور ماحولیاتی تحفظ جسمی سماجی ذمہ داریاں بہت مہنگی ہوتی ہیں اور ان کے لئے اکثر بہت زیادہ مالی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے ایسے حالات میں اس بات کا امکان ہے کہ کاروباری لوگ سماجی ذمہ داری کے اس بوجھ کو صارفین پر ان سے زیادہ قیمتیں وصول کر کے منتقل کر دیں۔ بجائے اس کے کوہ اسے خود برداشت کریں، اس لئے سماجی ذمہ داری کے نام پر صارفین سے نیکیں وصول کرنا غیر مناسب ہے۔

(iii) سماجی ہنرمندی کی کمی: تمام سماجی مسائل کو کاروباری مسائل کی طرح حل نہیں کیا جاسکتا، درحقیقت کاروباری لوگوں کو بھی سماجی مسائل حل کرنے کی ضروری سمجھا اور تربیت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے اس دلیل کے مطابق سماجی مسائل کو دوسری ماہر ایجنسیوں کے ذریعہ حل کیا جانا چاہیے۔

(iv) عوامی حمایت کی کمی: یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ عام طور سے عوام سماجی پروگراموں میں کاروبار کی شمولیت یا مداخلت پسند نہیں کرتے ہیں، اس لئے کاروبار عوام کے اعتماد اور تعاقون کی کمی کے باعث سماجی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

6.3.3 سماجی ذمہ داری کی حقیقت:

سماجی ذمہ داری کی موافقتو اور مخالفت میں دینے گئے مندرجہ

ہو چکا ہے۔ کاروباری اداروں نے اب صارفین پر مرکوز پالیسیوں کو اپنانا شروع کر دیا ہے۔

(iv) کاروباری لوگوں کے لئے سماجی معیار کا قیام: کاروباروں کو اب مخصوص پیسے کا دیوانہ وجود نہیں سمجھا جاتا جنہیں کسی بھی طرح کا کاروباری عمل کر کے ہر قیمت پر پیسے حاصل کرنے کی اجازت ہو اور وہ اپنی مرضی سے کاروبار چلائیں۔ نئے سماجی معیارات کاروباری ادارے کی معاشی سرگرمی کو اس صورت میں جائز تھہارتے ہیں جب کہ وہ سماجی ضروریات کو بھی پورا کریں کوئی بھی کاروبار سماج سے علیحدگی اختیار کر کے نہیں کیا جاسکتا۔ سماج ہی کاروبار کو بقا اور نشوونا کی اجازت عطا کرتا ہے اور سماجی معیار کی بنیاد پر کاروباری کاموں کو جانچا جاتا ہے۔

(v) کاروباری تعلیم کی ترقی: اپنے بھرپور سماجی مضامیں کے ساتھ کاروباری تعلیم کی ترقی نے لوگوں کو کاروبار کے سماجی مقصد سے واقف کرایا ہے صارفین، سرمایہ کار، ملازمین یا مالکان تعلیم یافتہ لوگ ہونے کی وجہ سے اب سماجی مددوں کے تینیں زیادہ حساس ہو گئے ہیں یہ صورت گذشتہ دور سے مختلف ہے جبکہ ایسی تعلیم دستیاب نہیں تھی۔

(vi) کاروباری مفاد اور سماجی مفاد کے درمیان تعلق: کاروباری اداروں کو اس حقیقت کا احساس ہونے لگا

پر منتخب شدہ حکومتوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ فلاجی ریاستوں کی مانند کام کریں گی جہاں انھیں سماج کے تمام طبقات کی غلبہداشت کرنی ہوگی۔ اس طرح جہاں کاروباری ادارے سماجی طور پر غیر ذمہ دار انہ طریقے سے کام کرتے ہیں وہاں لوگوں کے مفاد کے تحفظ کی خاطر انھیں باضابطہ کرنے کے لئے اقدام کئے جاتے ہیں۔ یہ عوامی ضابطہ کا اندریشہ ایک اہم وجہ ہے جس کے باعث کاروباری ادارے سماجی ذمہ داری کو پورا کرنے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔

(ii) مزدور تحریک کا دباؤ: گذشتہ صدی سے مزدور زیادہ تعلیم یافتہ اور منظم ہو گئے ہیں اس لیے مزدور تحریک کام کرنے والے طبقہ کے لئے فوائد حاصل کرنے کی خاطر تمام دنیا بہت طاقتور ہو گئی ہے اس سے کاروباری اداروں پر کارکنان کی فلاج و بہبود پر توجہ دینے کے لئے دباؤ میں اضافہ ہوا ہے اب وہ 'رکھو اور نکالو' (hire and fire) کی پالیسی پر عمل نہیں کر سکتے جس کے تحت وہ مزدوروں کے ساتھ اپنی مرضی سے پیش آتے تھے۔

(iii) صارفین کی بیداری کا اثر: تعلیمی ترقی، ماس میڈیا، اور بازار میں بڑھتے ہوئے مقابلے نے صارفین کو بیدار کر دیا ہے۔ اب وہ بازاری قوتوں کو متعین کرنے میں اپنے حق اور اختیار سے بخوبی واقف ہو گئے ہیں اب ”خریدار ہوشیار رہیں“، کا اصول ”صارفین بادشاہ ہیں“ کے اصول میں تبدیل

ادارہ ہے اور اسے معاشی کارکردگی کے لحاظ سے اپنے ساتھ انصاف برداشت ضروری ہے وہاں دوسری طرف یہ بھی چیز ہے کہ کاروبار سماج کا ایک عضو ہے اور اسی لئے سماجی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی اس کے لئے ضروری ہے۔

6.4 سماجی ذمہ داری کی اقسام

موٹے طور پر کاروباری سماجی ذمہ داری کو چار زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔

(a) معاشی ذمہ داری: کاروباری ادارہ بنیادی طور پر ایک معاشی وجود ہے اور اس لئے اس کی اولین سماجی ذمہ داری معاشی ہے یعنی سماج کی خواہشات کے مطابق اشیاء اور خدمات کی پیداوار کرنا اور انھیں منافع پر فروخت کرنا اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کاروباری تھوڑی بہت مرضی شامل ہوتی ہے۔

(b) قانونی ذمہ داری: ہر کاروباری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملکی قوانین کے تحت کام کرے۔ کیونکہ یہ قوانین سماج کی بھلائی کے لئے ہوتے ہیں اس لئے جو ادارہ قانون کی پابندی کرتا ہے وہ سماجی طور پر ایک ذمہ دار ادارہ بھی ہوتا ہے۔

(c) اخلاقی ذمہ داری: اس میں فرم کے ذریعہ کیا جانے والا برتاؤ شامل ہوتا ہے جس کی توقع سماج کو فرم سے ہوتی ہے لیکن جس کی تدوین قانون میں نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک شے کی تشبیہ کرتے وقت لوگوں کے وقار و عزت اور مذہبی جذبات و احساسات کا احترام کرنا۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں

ہے کہ سماج مفاد اور کاروباری ایک دوسرے کی تردید نہیں کرتے بلکہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں پہلے یہ محسوس کیا جاتا تھا کہ سماج کا استحصال کر کے کاروبار کو وسعت دی جاسکتی ہے لیکن اب عقیدہ یہ ہے کہ کاروبار کا طویل مدتی فائدہ سماج کی بہتر خدمت میں پوشیدہ ہے۔ ایسا اس لئے بھی ہے کیونکہ کاروبار جیسے مفید ادارے کو ایک جدید مہذب سماج کا لازمی جز مانا جاتا ہے۔

(vii) پیشہ و رانتظامی طبقہ کی ترقی: یونیورسٹیوں اور مخصوص انتظامی اداروں میں دی جانے والی پیشہ و رانہ انتظامی تعلیم نے پیشہ و رانتظامیوں کے ایک علاحدہ طبقہ کو حجم دیا ہے جس کا روایہ گذشتہ منتظمین (جو کہ مالکان کے طبقہ سے تعلق رکھتے تھے) کے مقابلہ میں سماجی ذمہ داریوں کے تین بالکل مختلف ہے۔ پیشہ و رانتظامیوں کاروباری ادارے کو کامیابی سے چلانے کے لئے منافع کے مقصد کو اپنانے کی بہ نسبت سماج کے مختلف گروپوں کے مفادات کو پورا کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔

ان تمام اور دوسری بہت سی سماجی اور معاشی قوتوں نے مل کر کاروبار کو ایک سماجی معاشی سرگرمی بنادیا ہے۔ کاروبار اب محض ایک پیشہ نہیں رہا ہے۔ اب یہ ایک معاشی ادارہ ہو گیا ہے جسے اپنے کم مدتی اور طویل مدتی مفادات اور سماج کی مانگوں کے درمیان ہم آہنگی قائم رکھنی پڑتی ہے اور اسی وجہ سے کاروبار کی عام اور مخصوص سماجی ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جہاں ایک طرف اس حقیقت کی تردید نہیں کی جاسکتی کہ کاروبار ایک معاشی

کارکردگی کے بارے میں حصہ داران کو باقاعدہ اور پوری طرح مطلع کرنا لازمی ہوتا ہے۔

(ii) کارکنان کے تینیں ذمہ داری: ادارے کی انتظامیہ کارکنان کو ایسے موقع فراہم کرنے کے لئے ذمہ دار ہوتی ہے جن سے ان کو با معنی کام ملے۔ اسے کام کرنے کے لیے طریقے کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کارکنوں کا تعامل سکے۔ ادارے کو کارکنوں کی یونین بنانے کے جھوری حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ کارکنوں کو منصفانہ معاوضہ اور انتظامیہ کی جانب سے منصفانہ سلوک کی یقین دہانی ہونی چاہیے۔

(iii) صارفین کے تینیں ذمہ داری: صارفین کو صحیح معیار اور مقدار میں اشیاء کی سپائی واجب قیمتوں پر کرنا ادارے کی صارفین کے تینیں ذمہ داری ہے ادارے کو ملاوٹ، غیرمعیاری اشیاء کی سپائی، صارفین کو اطمینان بخش خدمت فراہم کرنے کا فقدان، بہکانے والے اور غلط اشتہارات جیسے کاموں کے خلاف مناسب احتیاط برتنی چاہیے صارفین کو اشیاء، کمپنی اور ان تمام باتوں کے بارے میں معلومات کا حق ہونا چاہیے جو ان کی خریداری کو متاثر کرتی ہے۔

(iv) کمیونٹی اور حکومت کے تینیں ذمہ داری: ادارے کو ملک کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے اور اس کو کمپنیوں کی ادائیگی باقاعدگی اور دیانتداری سے کرنی چاہیے۔ اسے ایک

کاروبار کی جانب سے ایک رضا کارانہ عمل کا عنصر شامل ہوتا ہے۔

(d) مرضی پر مخصوص ذمہ داری: اس سے مراد وہ خالص رضا کارانہ ذمہ داریاں ہیں جو ایک ادارہ پوری طرح کرتا ہے جیسے تعلیمی اداروں کو خیراتی عطیات فراہم کرنا یا سیال ب اور زندہ سے متاثر لوگوں کی مدد کرنا۔ کمپنی کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنتے پہزادی کے کاموں سے بچ کر صرف صحیح مندانہ کاروباری کام کریں جن سے سرمایہ کاری پر بہتر منافع حاصل ہو اور اس طرح لوگوں کی مالیاتی سرمایہ کاری کا تحفظ کریں۔

6.5 مختلف گروپوں کے مفاد کے تینیں سماجی ذمہ داری

ایک بار جب کاروبار کے سماجی مقصد کی شناخت ہو جائے تو یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ کاروبار اور اس کی انتظامیہ کس کے لئے ذمہ دار ہے۔ ایک کاروباری اکائی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اسے سماجی مقاصد کو کس میدان میں پورا کرنا چاہیے۔ ادارے کی پہنچ مخصوص ذمہ داریاں حسب ذیل ہیں۔

(i) مالکان یا حصہ داران کے تینیں ذمہ داری: ایک کاروباری ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مالکان یا حصہ داروں کے ذریعہ کی گئی مالی سرمایہ کاری پر انہیں مناسب منافع فراہم کرے اور ان کی سرمایہ کاری کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ ایک کمپنی کے لیے اپنی مستقبل میں وسعت کی اسکیموں اور اپنی

خام مال کے استعمال میں فاضل مادوں کا اخراج ناگزیر ہے اس لئے صنعت کاروں کو ان فاضل مادوں کے مضر اثرات کو کم کرنے کے لئے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مناسب تکنیکوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ محول کے تحفظ میں ہم سب کی بھلائی ہے۔

آلودگی ہماری ہوا، زمین اور پانی کی طبعی، کیمیائی اور حیاتیاتی خصوصیات کو تبدیل کر دیتی ہے، آلودگی انسانی اور دیگر مخلوقات کی زندگی کے لئے مضر ہے یہ خام مال کے وسائل کو ضائع کر کے ہمارے رہنے کے محول اور ثقافتی ورثہ میں گراوٹ پیدا کرتی ہے، آلودگی کے وجود پانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا محول ایک محدود مقدار میں ہی آلودہ اور فاضل مادوں کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے۔ چند مہلک فاضل مادوں یا پیداوار کی زہریلی باقیات اور کمیوں کو مہلک آلودہ مادے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں زہریلی خاصیت ہوتی ہے اور محول ان کو گلا نہیں سکتا۔ اس طرح آلودگی سے محولیاتی معیار اور انسانی صحبت کو خطرہ لا حق ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے قدرتی اور انسان کے بنائے وسائل بھی تباہ ہوتے ہیں۔ محول کے تحفظ کا براہ راست تعلق آلودگی کے کنٹرول سے ہے۔

6.6.1 آلودگی کی وجوہات

ہمارے معاشرہ کے تمام طبقات فاضل مادوں کو پیدا کرتے ہیں چاہے وہ صنعت ہو حکومت، زراعت، کائنی، تو انائی، ذرائع آمد و رفت، تغیرات یا صارفین۔ ان فضلات میں آلودہ مادے شامل

اچھے شہری کی طرح بتاؤ کرنا چاہیے اور سماج کی اقدار کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اسے قدرتی محول کا تحفظ کرنا چاہیے اور محول کو آلودہ کرنے والے فاضل مادوں کے اخراج، دھواں اگلتی چمیوں، بدنما عمارتوں، کام کے گندگی بھرے محول سے بچنا چاہیے اسے لوگوں کے مختلف گروپوں کے ساتھ مل کر معاشرہ میں اپنی ایک بہتر شبیہ بنانی چاہیے۔

6.6 کاروبار اور محولیاتی تحفظ:

کاروباری منتظمین اور فیصلہ سازوں کے سامنے محولیاتی تحفظ ایک اہم مسئلہ ہے۔ محول سے مراد انسان کے اطراف میں موجود تمام چیزیں ہیں جن میں قدرتی چیزیں اور انسان کی بنائی ہوئی تمام چیزیں شامل ہیں یہ اطرافی اشیاء نو عیت کے اعتبار سے وسائل ہیں جو انسانی زندگی کے لئے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ ان وسائل کو قدرتی وسائل بھی کہا جاسکتا ہے جیسے زمین، پانی، ہوا، نباتات و حیوانات اور خام مال یا (ط) انسانی وسائل جیسے ثقافتی ورثہ، سماجی معاشی ادارے اور لوگ۔ یہ عام طور پر مانا جاتا ہے کہ ہمارے محول کا معیار خاص طور پر صنعتوں کی وجہ سے تیزی کے ساتھ تباہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کی مختلف ریاستوں اور اہم شہروں جیسے کانپور، جج پور، دہلی، پانی پت، کوکاتا میں یہ صنعتیں ایک عام منظر ہیں۔ ان کے ذریعہ آلودگی پھیلانے والے مادوں کا اخراج لوگوں کی صحبت پر براثر ڈال رہے ہیں آلودگی۔ جو کہ محول میں مہلک مادوں کا پہنچا ہونا ہے، درحقیقت صعبتی پیداوار کے باعث پیدا ہوتی ہے کیونکہ تو انائی اور

فضائی آلووگی نے اوزون کی تہبہ میں چھید کر دیا ہے جس کی وجہ سے زمین کو خطرناک گرمی کا سامنا ہے۔

(ii) آبی آلووگی: بنیادی طور پر کیمیائی اشیاء اور کوڑا کر کٹ ڈالنے سے پانی آلووہ ہو جاتا ہے سالوں سے کاروباری ادارے اور شہرونوں میں بے خبر ہو کر کوڑا کر کٹ دریاؤں، ندیوں اور جھیلوں میں ڈالتے رہے ہیں، آبی آلووگی کے باعث کئی جانور مر چکے ہیں اور اس کی وجہ سے انسانی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہے۔

(iii) زمینی آلووگی: زمین پر زہریلا کوڑا کر کٹ اور فضلات ڈالنا زمینی آلووگی کی وجہ ہے اس سے زمین کی کواٹی خراب ہوتی ہے اور پھر یہ زراعت اور باغبانی کے قابل نہیں رہتی۔ زمین کی کواٹی کو خراب ہونے سے بچانا ایک بڑا مسئلہ ہے۔

(iv) شور و غل کی آلووگی: کارخانوں اور موڑگاڑیوں کے چلنے سے پیدا ہونے والا شور و غل نہ صرف طبیعت پر گراں گرتا

ہوتے ہیں جو کہ کھیت یا پیداوار کے عمل کے دوران باقی رہ جانے والے کیمیائی مادے ہوتے ہیں۔ آلووگی ان ہی مادوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جن کو ماحول میں اس کی گلانے کی صلاحیت سے زیادہ مقدار میں خارج کیا جاتا ہے، آلووگی کے مختلف ذرائع ہیں لیکن صنعتی فضلات اپنی مقدار اور زہریلی خاصیت کے لحاظ سے آلووگی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ کاروباری سرگرمیوں، جیسے پیداوار کی تقسیم، ذرائع آمد و رفت، اسٹورنگ، اشیاء اور خدمات کے صرف کو ماحولیاتی آلووگی کے مسائل کا سب سے اہم ذریعہ مانا جاتا ہے کئی کاروباری ادارے (i) فضا (ii) پانی (iii) زمین اور (iv) شور و غل کی آلووگی پھیلانے کے لئے ذمدار ہیں۔

ان اقسام کی آلووگیوں کا تذکرہ ذیل میں کیا گیا ہے:

(i) فضائی آلووگی: جب بہت سے عوامل مل کر ہوا کی کواٹی کو کم کرتے ہیں تو فضائی آلووگی پیدا ہوتی ہے۔ موڑگاڑیوں سے نکلنے والی کاربن مونوکسائیڈ فضائی آلووگی کا سبب ہوتی ہے۔

ماحولیاتی مسائل

اقوام متحده نے ایسے آٹھ مسائل کی شناخت کی ہے جو قدرتی ماحول کو نقصان پہنچانے کا باعث ہوتے ہیں۔ وہ ہیں:

- (v) تازہ پانی کا معیار اور مقدار
- (vi) جنگلات کا کم ہونا
- (vii) زمینی معیار کا گھٹنا
- (viii) حیاتیاتی تنوع کو خطرہ
- (i) (OZONE) اوزون کا خاتمه
- (ii) عالمی گرمی (گلوبل وارمنگ)
- (iii) ٹھوس اور مہلک فاضل مادے
- (iv) آبی آلووگی

دل اور پھیپڑوں کی بیماریاں اموات کا بڑا سبب ہیں۔ ان بیماریوں کے پھیلنے اور ماحول کو آلودہ کرنے والے عوامل میں تعلق کے ثبوت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آلودگی کنٹرول کے اقدام نہ صرف ایسی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتے ہیں بلکہ یہ زمین پر صحت مندازندگی برقرار نہیں کر سکتے ہیں۔

(ii) ذمہ داری کے خطرہ میں کمی: ادارے کو ایسے لوگوں کو معاوضہ ادا کرنے کے لئے ذمہ دار ٹھہرایا جانا ممکن ہے جو کہ ماحول میں اس کے ذریعہ رقیق، گیس اور ٹھووس کی شکل میں خارج کئے گئے فاضل مادوں سے متاثر ہوں۔ اس لئے خدمات اور ذمہ داری کو کم کرنے کے خیال سے کارخانوں میں آلودگی کنٹرول کے آلات نصب کرنا ایک اچھے کاروباری پالیسی ہونی چاہیے۔

(iii) لاگتوں میں بچت: ایک موثر آلودگی کنٹرول پروگرام کی ضرورت کاروباری کاموں کو انجام دینے کی لاگتوں میں بچت کرنے کے لئے بھی ہوتی ہے لاگت میں بچت کرنے کی ضرورت خصوصاً اس وقت ہوتی ہے جب نامناسب پیداواری تنقیک کے نتیجہ میں بہت زیادہ فضلات اکٹھے ہو جاتے ہیں جن کو ٹھکانے لگانے اور پلانٹوں کو صاف کرنے میں بہت زیادہ لگتیں آتی ہیں۔

(iv) بہتر عوامی شبیہ: کیونکہ اب ماحولیاتی کواٹی کے تین عوامی بیداری میں اضافہ ہو رہا ہے اس لئے ایک فرم کی فضلات

ہے بلکہ یہ صحت کے لئے بھی نہایت مہلک ہے، شور و غل کی آلودگی سے کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے قوت سماج میں کمی، فلسفی اور دماغی بیماریاں۔

6.6.2 آلودگی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت

آلودگی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پیش قیمتی ماحولیاتی وسائل کو محفوظ کرنے اور ماحول کی کواٹی کو بہتر بنانے کے لئے ہوتی ہے تاکہ ان محفوظ شدہ وسائل کا استعمال انسانیت کے فائدے اور لوگوں کی صحت اور فلاح کو بہتر بنانے کے لئے کیا جاسکے۔ کسی وسیلہ (میڈیم) کو (ہوا، پانی، زمین) کتنا نقصان ہوتا ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آلودگی کس قسم کی ہے، خارج کئے گئے آلودہ مادوں کی مقدار کتنی ہے اور آلودگی کا ماغذہ کتنے فاصلہ پر ہے لیکن یہ تمام آلودہ مادے ماحول کی کواٹی میں گراٹ کا باعث ہیں اور کسی حد تک معمول کی زندگی گزارنے میں دشواری پیدا کرتے ہیں۔ اب لوگ ان آلودگی پیدا کرنے والی سرگرمیوں کے خلاف زور شور سے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ کاروباری ادارے بھی ماحولیاتی تباہی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، کاروباری اداروں کو نہ صرف تقدیموں سے بچنے کے لئے آلودگی کے کنٹرول کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان اقدامات سے انہیں دوسرے فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں، آلودگی کو کنٹرول کرنے کی چند اہم وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔

(i) مضر صحت خطرات میں کمی: ہمارے سماج میں کینسر،

ماحولیاتی وسائل کی حفاظت بھی کرے۔ کاروباری ادارے دولت، روزگار، تجارت اور تنکنالوجی کے رہنمای خالق ہیں۔ وہ وضع پیانے پر مالی، طبی اور انسانی وسائل کے مالک بھی ہیں، ان کے پاس ماحولیاتی آلوڈی کو عمل کرنے کا مناسب علم بھی ہے وہ جانتے ہیں کہ آلوڈی پھیلانے والے مادوں کو ان کے مخراج پر ہی روک کر کس طرح ماحول کو تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ کئی حالات میں تو پیداوار کے عمل میں تجدید کر کے، آلات کوئی طرح ڈھال کر، خراب معیار کے خام مال کو بہتر معیار کے خام مال سے تبدیل کر کے یا دوسرے اخترائی طریقہ عمل اپنا کر آلوڈی کو مکمل طور پر ختم کیا جاسکتا ہے۔ چند خاص اقدام جو کہ کاروباری ادارہ ماحولیاتی تحفظ کے لئے کرسکتا ہے مندرجہ ذیل ہیں:

(i) ادارے کی اعلیٰ انتظامیہ کا آلوڈی کے خاتمه اور ماحولیاتی تحفظ کے لئے کام کی شافت بنانے، قائم رکھنے اور ترقی دینے کا پکا عہد کرنا۔

(ii) ماحولیاتی تحفظ کی ذمہ داری میں ادارے کے تمام شعبوں اور ملازمین کی حصہ داری کو یقینی بنانا۔

(iii) آلوڈی کو کنٹرول کرنے کے مقصد کے لئے اچھے معیار کے خام مال کی خریداری، ہمتاکنالوجی، فاضل مادوں کے خاتمه میں سائنسی طریقوں کا استعمال اور ملازمین کی مہارتوں کو بڑھانے والی پالیسیوں اور پروگراموں کو تیار کرنا۔

(iv) آلوڈی کے خاتمه کے لئے حکومت کے ذریعہ لاگو کئے گئے قوانین اور ضابطوں پر باقاعدگی سے عمل کرنا۔

کو کنٹرول کرنے کی پالیسیاں اور طریقے لوگوں کے رویہ کو اس برابر متأثر کرتے رہیں گے۔ ایک فرم کو جو کہ ماحول کی موافقت میں کام کرتی ہے اچھی شہرت ملے گی اور اسے سماجی طور پر ذمہ دار ادارہ سمجھا جانے لگے گا۔

(v) دیگر سماجی فوائد: آلوڈی کو کنٹرول کرنے کے نتیجے میں کئی دوسرے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں جیسے صاف طور پر دکھائی دینا، عمارتوں کا اجلاء پن، ہمتا معیار زندگی اور قدرتی اشیاء کی خالص شکل میں دستیابی۔

6.6.3 ماحولیاتی تحفظ میں کاروبار کا کردار

کیونکہ ماحول کی کواٹی ہم سبھی کے لئے ہم ہے اس لئے خراب ہو جانے سے اس کی حفاظت کرنا ہم سبھی کی مجموعی ذمہ داری ہے۔ چاہے حکومت ہو، کاروباری ادارے، صارفین، کارکنان، یامعاشرہ کے دیگر ممبران ہوں ہر ایک ماحولیاتی آلوڈی کی روک تھام کے لئے کچھ نہ کچھ کرسکتا ہے۔ حکومت آلوڈی پھیلانے والی مہلک اشیاء کی پیداوار پر پابندی کے قوانین لاگو کر سکتی ہے۔ صارفین، کارکنان اور معاشرہ کے دیگر ممبران ان اشیاء کے استعمال کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور ایسے کام انجام دے سکتے ہیں جو کہ ماحول کی بھلائی میں ہوں۔

بہر حال کاروباری اداروں کو ماحولیاتی مسائل حل کرنے میں رہنمائی کرنی چاہیے۔ یہ ہر کاروبار کی سماجی ذمہ داری ہے کہ ہر قسم کی آلوڈی کو روکنے کے لیے نہ صرف اقدام کرے بلکہ

سوال کا جواب اہم ہے کیونکہ کاروباری ادارے نہ صرف سماج کی پیداوار ہوتے ہیں بلکہ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں ان کو سماج کی اقدار اور ترجیحات کے مطابق ڈھلانا پڑتا ہے۔ اخلاقیات کے مضمون کے مواد کا تعلق انفرادی بھلائی اور سماجی بہبود کے درمیان رشتہ قائم کرنے سے ہے۔

6.7.1 کاروباری اخلاقیات کا تصور :

لفظ، "تھیکس، یونانی لفظ، آٹھکس، سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں معاشرہ میں راجح اخلاقیات یا معیارات، ضوابط یا کردار۔ اخلاقیات کا سروکار انسانی برداشت کو معاشرہ کے ذریعہ منظور شدہ معیاری انفرادی برداشت کی بنیاد پر صحیح اور غلط ٹھہرائے جانے سے ہے، اخلاقیات کو اخلاقی اقدار کا ایسا مکمل مجموعہ خیال کیا جاتا ہے جسے سماج انسانی کاموں کے ساتھ جوڑتا ہے، اخلاقیات سے مراد وسائل کو نظرول کرنے کے لئے بنائے گئے مجموعہ قوانین یا دیگر نظاموں سے بھی لی جاتی ہے تاکہ ان سے انسانوں کی خدمت کی جاسکے۔ اخلاقی معیارات اکثر قوانین میں تنکیل کئے جاتے ہیں۔ لیکن اخلاقی برداشت ایک ایسا منصفانہ اور شفاف طرز عمل ہے جو محض قوانین اور حکومت کے ضابطوں پر چلنے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اخلاقی اصولوں کا خیال رکھنا، مخصوص اقدار کے ذریعہ رہنمائی حاصل کرنا اور اس طرح برداشت کرنا کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ تحریری یا غیر تحریری مجموعہ قوانین/ اصول جو ایک پیشہ وار نہ یا انسانی سرگرمی پر لاگو ہوتے ہیں اخلاقیات کہلاتے ہیں۔

(vii) حکومت کے پروگراموں میں حصہ لینا جن کا تعلق مہلک مادوں سے نہیں کے بندوبست، آلووہ دریاؤں کی صفائی، شجر کاری اور جنگلات کے خاتمے کو روکنے سے ہو۔

(vi) لاگتوں اور فوائد کے لحاظ سے آلووی کنٹرول کے پروگراموں کا وقتاً فو قائم جائزہ لیتے رہنا تاکہ ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے ان کی رفتار کو بڑھایا جاسکے۔

(viii) تعلیمی و رکشاپ کا انعقاد کرنا اور تربیتی مواد کو سپلائیروں، ڈیلروں اور گاہوں میں تقسیم کرنا تاکہ تینیکی معلومات اور تجربات کو ان کے ساتھ باٹھا جاسکے اور ان کو سرگرم طور پر آلووی کنٹرول پروگراموں میں شامل کیا جاسکے۔

6.7 کاروباری اخلاقیات

سماج کے نقطہ نظر سے کاروبار کا مقصد لوگوں کو اشیاء اور خدمات کی سپلائی کرنا ہے۔ انفرادی نقطہ نظر سے کاروباری فرم کا اولین مقصد منافع کرنا ہے ہر ایک شخص کاروبار سے یہی موقع کرتا ہے کہ اس کے انفرادی مقاصد اور سماجی مقاصد کے درمیان تکرار ا نہیں ہوگا بہر حال کاروباری ادارے انسانوں کے ذریعہ ہی چلائے جاتے ہیں جن کے فیصلے اور کام ہمیشہ ہی سماج کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتے، ایک ادارہ معاشی کارکردگی (جیسے محاصل، لاگت اور منافع) کے لحاظ سے اچھا ہو سکتا ہے لیکن سماجی کارکردگی جیسے واجب قیتوں پر اچھی کوئی کی اشیاء کی سپلائی کے لحاظ سے پست بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سماجی نقطہ نظر سے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس

ہندوستان میں ماحولیاتی تحفظ (حکومت کے ذریعہ کئے گئے اقدام)

1. قوانین: ہندوستان کے آئین میں ریاستی پالیسی کے رہنماء صول ماحول کے تحفظ پر زور دیتے ہیں۔ لاگو کئے گئے چند قوانین مندرجہ ذیل ہیں:
 - i. جنگلاتی زندگی کے تحفظ کا قانون (The wildlife protection Act) 1972
 - ii. آبی (آلودگی کنٹرول اور احتیاطی تدابیر) قانون 1974 جس میں 1974 اور 1988 میں ترمیم کی گئی۔
 - iii. فضا (آلودگی کنٹرول اور احتیاطی تدابیر) قانون 1974 جس میں 1974 اور 1988 میں ترمیم کی گئی۔
 - iv. ماحول (تحفظ) قانون 1986
 - v. مہلک فضلات کا قانون 1989 (The Hazardouswaste Act, 1989)
 - vi. جنگلات (تحفظ) قانون 1980 جس میں 1988 میں ترمیم کی گئی۔
2. ضوابط: حکومت نے انتظامی احکامات اور پالیسی کے رہنماء صولوں کی تشکیل کی ہے۔
حکومت ہند نے 1980 میں ماحول کے لئے ایک علیحدہ شعبہ قائم کیا۔
3. چند انصبابی یا نیم عدالتی اداروں کو قائم کیا گیا ہے جیسے
 - نیشنل ایفورسٹشن اینڈ ایکو-ڈیولپمنٹ بورڈ اور
 - نیشنل ویسٹ لینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ
4. صنعتی اکائیوں کو شہروں میں بند کیا جا رہا ہے۔ دہلی کی ہائی کورٹ نے صنعتی اکائیوں کو دہلی سے باہر منتقل کرنے اور بند کرنے کا حکم صادر کیا ہے اسی طرح عدالتون نے آگرہ شہر سے خراؤ کے خانوں کو ہٹانے اور کانپور سے صنعتی کارخانوں کو منتقل کرنے کے احکام جاری کئے ہیں۔
5. ماحولیاتی تعلیم پر مختلف پروگرام اور سینماز بیداری اور وسائل پیدا کرنے کے لئے باقاعدگی سے منظم کئے جا رہے ہیں۔
6. حکومت نے ماحول کے لئے عملی منصوبہ (انوارمیٹ ایکشن پلان ای اے پی) کی بھی تشکیل کی ہے۔

دیگر لوگوں اور کاروباری لوگوں کے درمیان اصل فرق یہ ہے کہ کاروباری اشخاص سماجی وسائل پر زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں اور اسی لئے سماج میں ہونے والے واقعات پر ان کا اثر نبنتاً زیادہ ہوتا ہے۔ کاروباری اشخاص اور سیاست دانوں سے دوسرے لوگوں کی پہنچت زیادہ معیاری ہونے کی توقع کی جاتی ہے۔ شاید یہ سماج کی جانب سے فیصلہ سازی کے اختیارات رکھنے کی قیمت ہے جو ان کو ادا کرنی پڑتی ہے۔

اب تمام دنیا میں یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ ہر کاروبار اور سماج کی ترقی کے لئے اخلاقیات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اخلاقی کاروبار ایک اچھا کاروبار ہوتا ہے۔ اخلاقی کاروباری

کاروباری اخلاقیات کا تعلق کاروبار کے مقاصد طرزِ عمل، تنکیوں اور سماجی بھلائی کے پنج رشتے کے ساتھ ہے۔ کاروباری اخلاقیات سے مراد سماجی طور پر متعدد کئے گئے، اخلاقی اصولوں سے ہے جن کو کاروباری سرگرمیوں پر لاگو ہونا چاہیے۔ کاروباری اخلاقیات کی چند مثالیں ہیں: صارفین سے واجبی قیمتیں وصول کرنا۔ اشیاء کی پیمائش میں مناسب وزنوں کا استعمال کرنا، کارکنوں کے ساتھ مناسب برتاؤ کرنا، اور واجب منافع کمانا۔

ایک کاروباری شخص اس وقت اخلاقی برتاؤ کرتا ہے جب وہ اپنے کاموں کو صحیح طور پر اور سماج کے مفاد میں انجام دیتا ہے۔ یہ بات بیکار لوگوں پر بھی لاگو ہوتی ہے جو کاروبار میں ہیں لیکن

تین ایک جیسے تصورات کا نقطہ آغاز

- (a) **کارپوریٹ کی سماجی ذمہ داری:** اس کی ابتداء ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہوئی جہاں حکومت نے اجراہ داری کاموں کے خلاف ایمنی ٹرسٹ ایکٹ پاس کیا تھا تاکہ سماج کی فلاج و بہبود کی حفاظت کی جاسکے اور اسے بہتر بنایا جاسکے۔
- (b) **کاروباری اخلاقیات:** اس کی ابتداء بھی 1970 کے سالوں میں یوائیس اے میں ہوئی۔ کاروباری اخلاقیات نے سماجی اقدار کو اجاگر کیا اور کاروبار کے حوالے سے سماجی فکرات پر روشنی ڈالی۔ اور ملک میں موجود کمپنیوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ ایسے کاموں اور پالیسیوں سے باز رہیں جن سے صارفین اور ماحول کے تحفظ کو خطرہ ہو۔
- (c) **کمپنی کی فرمانروائی (Corporate Governance):** اس کا آغاز برطانیہ میں ہوا اس کا مقصد حصہ داران کے تین ڈائریکٹروں کی جوابدی کو بہتر بنانا تھا۔ اس کے تحت جن بالتوں پر زور دیا گیا تھا زیادہ شفاف آڈیٹنگ، آزاد ڈائریکٹروں کی ذمہ داریوں میں اضافہ اور حصہ داران کے مفادات کے تحفظ کے لئے چیزیں اور نیجگ ڈائریکٹروں کے کاموں کی تقسیم۔

سے عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادارے کی اقدار کو قائم رکھنے اور ترقی دینے کے لئے انھیں مسلسل رہنمائی کرنی چاہیے۔

(ii) ضابطہ (کوڈ) شائع کرنا: موثر اخلاقی پروگرام رکھنے والے ادارے پوری تنظیم کے لئے عملی اصول تدوین کرتے ہیں جو تحریری دستاویزات کی شکل میں ہوتے ہیں اور انھیں ”کوڈ“ یا ”ضابطہ“ کہا جاتا ہے ان میں عموماً جن باتوں کو شامل کیا جاتا ہے وہ ہیں بنیادی دیانتداری اور قوانین پر عمل، معیاری اور محفوظ اشیاء، کام کرنے کی صحت مند اور محفوظ جگہ مقاوم کے تراز عات، روزگار کے معمولات، مارکنگ/سینگ کے کاموں میں ایمانداری اور مالیاتی رپورٹنگ۔

(iii) تعلیمی میکانزم کا قیام: فرم کے اخلاقی معیاروں پر حقیقی فیصلوں اور کاموں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے مناسب میکانزم کو قائم کرنا چاہیے۔ ایسے میکانزموں کی چند مثالیں ہیں: بھرتی کرنے اور کرائے پر رکھنے میں اخلاقی اقدار پر توجہ دینا، تربیت دینے میں کارپوریٹ کی اخلاقیات پر زور، اخلاقیات پر کس درجہ تعلیم ہو رہی اس کا تجزیہ کرنے کے لئے مسلسل جائز کرنا، اور ایسا تسلی نظام قائم کرنا جس سے غیر اخلاقی بر塔و کے واقعات کی روپورٹ کرنے میں ملاز میں کو مدد ملے۔

(iv) تمام سطحیوں پر ملاز میں کوشامل کرنا: یہ ملاز میں ہی ہوتے ہیں جو مختلف سطحیوں پر اخلاقیاتی پالیسیوں کو لاگو کرتے ہیں اور کاروباری اخلاقیات کو ایک حقیقی شکل دیتے ہیں، اس

برتاو کاروبار کی عوامی شبیہ کو بہتر بناتا ہے، عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے اور عظیم کامیابی کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ لمبے عرصہ میں اخلاقیات اور منافع ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اخلاقیات ہی معاشرہ کو عظیم بناسکتے ہیں نہ کہ حکومت یا قوانین۔ ایک اخلاقی طور پر ذمہ دار ادارہ لوگوں اور ماحول کی نگہداشت کرنے والی شفافت کو ترقی دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اعلیٰ درجہ کی ایمانداری کو بروئے کارلاتا ہے، درحقیقت اخلاقی کام اپنے آپ میں بھی تیقی ہوتا ہے کیونکہ اس سے نہ صرف ہماری زندگی کے معیار میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس کام کے معیار میں بھی جو ہم کرتے ہیں۔

6.7.2 کاروباری اخلاقیات کے عناصر

اخلاقی کاروباری برتاو کاروباری ادارے اور سماج دونوں کی بھلائی میں ہوتا ہے اس لئے یہ جانا ضروری ہے کہ ادارہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں اخلاقیات کی کس طرح پروش کر سکتا ہے۔ ادارے کو چلانے میں کاروباری اخلاقیات کے بنیادی عناصر مندرجہ ذیل ہیں:

(i) اعلیٰ انتظامیہ کا عہد: اعلیٰ انتظامیہ کا پورے ادارے کی اخلاقی طور پر درست برتاو کی جانب رہنمائی کرنے میں ایک اہم روٹ ہوتا ہے، نتائج حاصل کرنے کے لئے چیف ایکیڈیٹو آفیسر (سی ای او) اور دیگر اعلیٰ سطحی منتظمین کو اخلاقی برتاو پر سختی

نتائج کی تھیک پیمائش کرنا مشکل ہے پھر بھی فرم اخلاقیاتی معیاروں کی تعییں پر نظر رکھ کر جانچ کر سکتی ہے۔ اعلیٰ انتظامیہ کی ٹیم اور دیگر ملازمین کو پھر ان نتائج پر بحث کرنی چاہیے تاکہ آگے کالائج عمل طے ہو سکے۔

لئے اخلاقیاتی پروگراموں میں ان کی شمولیت لازمی ہو جاتی ہے۔ مثلاً فرم کی اخلاقیاتی پالیسیوں پر بحث کرنے کے لئے ملازمین کے چھوٹے چھوٹے گروپ تنشیل کئے جاسکتے ہیں اور ان پالیسیوں کے تین ملازمین کے رویہ کی جانچ کی جاسکتی ہے۔

(v) نتائج کی پیمائش: حالانکہ اخلاقیاتی پروگراموں کے

اخلاقیات کے بنیادی اصول

ان اصولوں کی نوعیت چند آفاقی خوبیوں کی ہے جن کو اپنا کر، ترقی دے کر اور بروئے کار لا کر ہر انسان کو اپنی زندگی میں اخلاقی انسان بننا چاہیے۔

- (a) قابل اعتماد بھو
- (b) دوسروں کا احترام کرو
- (c) ذمہ دار بھو
- (d) معاملات میں ایمانداری برتو
- (e) دوسروں کی فلاح کے لئے فکرمند رہو
- (f) شہری فرائض اور اچھائیوں پر پورے اتر کر ایک اچھے شہری ہونے کا شوت دو۔

کلیدی اصطلاحات

سماجی ذمہ داری	آبی آلوڈگی	کاروباری اخلاقیات
ماحول	شوروغل کی آلوڈگی	قانونی ذمہ داری
ماحولیاتی تحفظ	فضائی آلوڈگی	اخلاقیات
آلوڈگی	زمینی آلوڈگی	اخلاقیات کا کوڈ (ضابط)

خلاصہ:

سماجی ذمہ داری کا تصور: کاروباری سماجی ذمہ داری سے مراد اس کے ان فیصلوں کو لینے اور ان کاموں کو انجام دینے کی ذمہ داری سے ہے جو کہ ہمارے سماج کی اقدار اور مقاصد کے لحاظ سے قابل قبول ہوں۔

سماجی ذمہ داری کی ضرورت: سماج کے مفاد اور کاروبار کے مفاد و نوں کی وجہ سے کاروباری سماجی ذمہ داری کی ضرورت ہوتی ہے، بہرحال سماجی ذمہ داری کی موافقت اور مخالفت دونوں کے لئے دلائل دیے جاتے ہیں:

سماجی ذمہ داری کی موافقت میں دلائل: اہم دلائل ہیں: (i) بقا اور ترقی کے لئے جواز (ii) فرم کا طویل مدتی مفاد اور شبیہ (iii) معاشرہ کی دیکھ رکھ (iv) حکومت کے ضوابط سے گریز (v) کاروبار کے پاس وسائل کی دستیابی (vi) مسائل کو موقع میں تبدیل کرنا (vii) کاروبار کرنے کے لئے بہتر ماحول اور (viii) سماجی مسائل کے لئے کاروبار کو ذمہ دار ٹھہراانا۔

سماجی ذمہ داری کی مخالفت میں دلائل: سماجی ذمہ داری کی مخالفت میں اہم دلائل مندرجہ ذیل ہیں: (i) زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے مقصد کی خلاف ورزی (ii) صارفین پر بوجھ (iii) سماجی ہمدردی کی کمی (iv) عوامی حمایت کا فقدان۔

سماجی ذمہ داری کی حقیقت: سماجی ذمہ داری کی حقیقت یہ ہے کہ سماجی ذمہ داری سے متعلق اختلافی دلائل ہونے کے باوجود کاروباری ادارے چند بیرونی قوتوں کے اثر کے باعث سماجی ذمہ داریوں پر توجہ دیتے ہیں۔ یقین ہیں:

(i) عوامی ضابطہ کا اندیشہ (ii) مزدور تحریک کا دباؤ (iii) صارفین کی بیداری کا اثر (iv) کاروباری لوگوں کے لئے سماجی معیار کا قیام (v) کاروباری تعلیم کی ترقی (vi) کاروباری مفاد اور سماجی مفاد کے درمیان تعلق (vii) پیشہ و راستہ ایامی طبقہ کی ترقی

مختلف گروپ کے مفاد کے تین سماجی ذمہ داری: کاروباری ادارے مختلف گروپوں کے تین ذمہ داری رکھتے ہیں جیسے (i) حصہ داران یا مالکان (ii) کارکنان (iii) صارفین اور (iv) کمیونٹی اور حکومت۔ حصہ داران کو ان کی سرمایہ کاری پر منافع دینا اور ان کی سرمایہ کاری کا تحفظ، کارکنان کو بمعنی کام کے لئے موقع کی فراہمی، صارفین کو واجب قیتوں پر درست مقدار اور معیار کی اشیاء اور خدمات کی فراہمی اور حکومت کو ٹیکس کی دیانت داری سے ادا نیگی، قدرتی ماحول کا تحفظ، کاروباری چندر سماجی ذمہ داریاں ہیں۔

کاروبار اور ماحولیاتی تحفظ: کاروباری منتظمین اور فیصلہ سازوں کے سامنے ماحولیاتی تحفظ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ماحول سے مراد انسان کے اطراف میں موجود تمام چیزیں ہیں انسان کی بنائی ہوئی اور قدرتی دونوں۔ آسودگی، جو کہ ماحول میں مہلک مادوں کا پہنچانا ہے،

درحقیقت صنعتی پیداوار کے باعث ہوتی ہے۔ آلوڈگی کے مضر اثرات انسانی زندگی اور دیگر مخلوقات کی زندگی دونوں پر پڑتے ہیں۔ **آلوڈگی کی وجوہات:** آلوڈگی کے مختلف ذرائع ہیں لیکن صنعت (فضلات کی مقدار اور ان کی زہریلی خاصیت کے لحاظ سے) آلوڈگی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کئی کاروباری ادارے فضا، پانی، زمین اور شور و غل کی آلوڈگی پھیلانے کے لئے ذمہ دار ہیں۔

آلوڈگی کنٹرول کرنے کی ضرورت: آلوڈگی کنٹرول کرنے کے لئے چند اہم وجوہات ہیں (i) مضر صحت خطرات میں کمی (ii) ذمہ داری کا کم خطرہ (iii) لاگتوں میں بچت (iv) بہتر عوامی شبیہ (v) دیگر سماجی فوائد

ماحولیاتی تحفظ میں کاروبار کا رول: سماج کا ہر بُر ماحدوں کے تحفظ کے لئے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، ہر حال کاروباری اداروں کو ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے میں رہنمائی کرنی چاہیے۔ چند اقدام جو وہ کر سکتے ہیں حسب ذیل ہیں: اعلیٰ انتظامیہ کی ذمہ داری، واضح پالیسیاں اور پروگرام، حکومت کے ضوابط کی پابندی کرنا، حکومت کے پروگرام میں حصہ لینا، آلوڈگی کنٹرول پروگراموں کی وقتاً فوقتاً تشخیص کرنا اور متعلقہ لوگوں کی مناسب تعلیم و تربیت۔

کاروباری اخلاقیات کا تصور: اخلاقیات سے مراد انسانی برتاؤ کو معاشرہ کے ذریعہ متعین کئے گئے معیاری برتاؤ کی بنیاد پر صحیح یا غلط ٹھہرائے سے ہے۔ کاروباری اخلاقیات کا تعلق کاروبار کے مقاصد، طرزِ عمل، ہمکیوں اور سماجی بھلائی کے نقشہ رشتے کے ساتھ ہے، اخلاقیات کا ہونا ہر ایک کاروبار کے لئے اہمیت رکھتا ہے۔

کاروباری اخلاقیات کے عناصر: ایک کاروباری ادارہ اپنے کام کی جگہ پر کاروباری اخلاقیات کے مندرجہ ذیل بنیادی عناصر اپنا کر اخلاقیات کی پوشش کر سکتا ہے۔ (i) اعلیٰ انتظامیہ کی ذمہ داری (ii) ضابط (کوڈ) شائع کرنا (iii) تعلیمی میکانزم کا قیام (iv) تمام سطحوں پر ملازمین کی شمولیت (v) متاثر کی پیمائش

مشقین

کثیر انتخابی سوالات

1. سماجی ذمہ داری ----- ہے۔

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| (a) قانونی ذمہ داری جیسی | (b) قانونی ذمہ داری سے زیادہ وسیع |
| (c) قانونی ذمہ داری سے تنگ / کم | (d) ان میں سے کوئی نہیں |

2. اگر کاروباری ایسے معاشرہ میں کام کرنا ہے جو مختلف نوعیت کے پیچیدہ مسائل سے پر ہے تو ایسی صورت میں اس کے پاس کامیابی کا کم موقع ہے

 - (a) کامیابی کا کم موقع ہے
 - (b) کامیابی کا زیادہ موقع ہے
 - (c) ناکامی کا کم موقع ہے
 - (d) ناکامی اور ناکامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں

3. کاروباری لوگوں کے پاس حل کرنے کی ہنرمندی ہوتی ہے۔

 - (a) تمام سماجی مسائل
 - (b) چند سماجی مسائل
 - (c) کسی بھی سماجی مسئلہ کی نہیں
 - (d) تمام معاشری مسائل

4. اگر ایک ادارہ ایک اچھے شہری جیسا بتاؤ کرتا ہے تو یہ مثال اس کی ذمہ داری کی ہے۔

 - (a) مالکان کے تیس
 - (b) کارکنان کے تیس
 - (c) صارفین کے تیس
 - (d) کمیونٹی کے تیس

5. ماحولیاتی تحفظ ان کی کوششوں سے بہترین طور پر کیا جاسکتا ہے۔

 - (a) کاروباری لوگ
 - (b) حکومت
 - (c) سائنس داں
 - (d) تمام لوگ

6. موڑگاڑیوں کے ذریعہ خارج کیا گیا کاربన مونوکسائیڈ براہ راست پیدا کرتا ہے۔

 - (a) آبی آلو دگی
 - (b) شور و غل کی آلو دگی
 - (c) زمینی آلو دگی
 - (d) تمام طرح کی آلو دگی

7. مندرجہ ذیل میں سے کون آلو دگی کنشروں کی ضرورت کی تشریح کرتی ہے۔

 - (a) لاگتوں کی بچت
 - (b) ذمہ داری کے خطرہ میں کمی
 - (c) مضر و محت خطرات میں کمی
 - (d) یہ تمام

8. مندرجہ ذیل میں کس میں سماج کی زیادہ سے زیادہ بھلائی کرنے کی امیلت ہے۔

 - (a) کاروباری کامیابی
 - (b) قوانین اور رضوا باط
 - (c) پیشہ وار ادا نظم اداری
 - (d) اخلاقیات

9. اخلاقیات اہم ہیں

(a) اعلیٰ انتظامیہ کے لئے

(b) درمیانی سطح کے منتظمین کے لئے

- | | |
|---|---|
| <p>10. ایک کاروباری ادارے میں مندرجہ ذیل میں سے کون موثر اخلاقیات پروگراموں کو تینی بنا سکتا ہے۔</p> | <p>(c) غیر انتظامی ملازمین کے لئے
 (d) ان تمام کے لئے</p> |
| <p>(a) ایک کوڈ (ضابطہ) کی اشاعت
 (b) ملازمین کی شمولیت
 (c) تعلیمی میکانزم کا قیام
 (d) ان میں سے کوئی نہیں</p> | |

مختصر جوابی سوالات:

1. کاروباری کی سماجی ذمہ داری سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ قانونی ذمہ داری سے کس طرح مختلف ہے؟
2. ماحول سے کیا مراد ہے؟ ماحولیاتی آلوگی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟
3. کاروباری اخلاقیات سے کیا مراد ہے؟ کاروباری اخلاقیات کے بنیادی عناصر کا تذکرہ کیجئے۔
4. مختصر اوضاحت کیجئے (a) آبی آلوگی (b) فضائی آلوگی اور (c) زمینی آلوگی۔
5. کاروباری کی سماجی ذمہ داری کے اہم میدان کیا ہیں؟

طویل جوابی سوالات:

1. سماجی ذمہ داریوں کی موافقت اور مخالفت میں دیجے جانے والے دلائل بیان کیجئے۔
2. سماجی ذمہ داریوں کے تین کاروباری اداروں کی بڑھتی ہوئی فکر کے لئے ذمہ دار قوتوں کی تشریح کیجئے۔
3. کاروباریک سماجی ادارہ ہے نہ کہ محض ایک منافع کمانے کی سرگرمی۔ وضاحت کیجئے۔
4. اداروں کو آلوگی کنٹرول کرنے کے اقدامات کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟
5. ایک ادارہ آلوگی کے خطرے سے ماحول کو محفوظ رکھنے کے لئے کیا اقدامات کر سکتا ہے؟
6. کاروباری اخلاقیات کے مختلف عناصر کی وضاحت کیجئے۔

پراجیکٹ / تقویض

1. کلاس روم میں استعمال کے لئے اخلاقیات کا ایک ضابطہ (کوڈ) مرتب اور تحریر کیجئے۔ آپ کے دستاویز میں طلباء، اساتذہ اور پرنسپل کے لئے رہنمایا صول شامل ہونے چاہئیں۔
2. اخبارات، رسالوں اور دیگر کاروباری حوالہ جات کا استعمال کر کے کم از کم تین کمپنیوں کی شناخت اور تشریح کیجئے جو آپ کے خیال میں سماجی طور پر ذمہ دار ہیں اور تین ایسی کمپنیوں کی شناخت اور تشریح کیجئے جو آپ کے خیال میں سماجی طور پر غیر ذمہ دار ہیں۔

حصہ دوم
کارپوریٹ تنظیم
مالیات اور تجارت
